

SODIUM FLUORIDE	سڈیم فلورائیڈ		ICSC: 0951
CAS # 7681-49-4 RTECS # WB0350000 UN # 1690 EC # 009-004-00-7 EINECS# 231-667-8 UN Hazard class: 6.1	دیگر نام : Sodium fluoride Sodium monofluoride فارمولا : NaF سلامتی وزن : 42.0		
ابتدائی طبی امداد اور آگ پر قابو پانا	بچاؤ	شدید خطرات \ علامات	خطرے کی قسم
آگ کے قرب و جوار میں پھیلنے کی صورت میں تمام بجھانے والے مادے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔	کھلے شعلے اور سگریٹ نوشی سختی سے منع ہیں۔ گرم سطحوں کے ساتھ بالکل نہ چھوئی۔	غیر آتش گیر مادہ جلنے پر سوزش پیدا کرنے والے یا زہریلے بخارات (یا گیسوں) خارج ہوتے ہیں۔	آگ:
			دعا کردہ:
آگ لگنے کی صورت میں ڈرموں وغیرہ پر پانی کا چھڑکاؤ کر کے ٹھنڈا رکھیں			جسم میں داخلہ:
تازہ ہوا میں لے جائیں، آرام دلائیں ٹیکٹ لگا کر لٹائیں۔ طبی نگہداشت کا انتظام کریں	ہوا کی آمد و رفت (ہاؤڈر کی صورت میں نہیں) لوکل ایگزاسٹ یا آلات تنفس کا انتظام کریں	گلے کی خرابی کھانسی	سانس کے راستے:
خراب شدہ کپڑے اتار دیں جلد پر وافر مقدار میں پانی بہائیں یا شاور کے نیچے لے جائیں۔ طبی نگہداشت کا بندوبست کریں	حفاظتی دستا نے استعمال کریں	سرخی	جلد کے راستے:
پہلے کئی منٹ تک پانی سے اچھی طرح دھوئیں پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔	پہرے کی شیلڈ استعمال کریں یا پاؤڈر کی صورت میں سانس کے تحفظ کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت استعمال کریں	سرخی۔ درد۔	آنکھوں میں پرہنا:
پانی سے منہ اندر سے صاف کریں سے دلائیں (صرف ہوش میں ہونے کی صورت میں)۔ پینے کے لیے وافر پانی دیں۔ پانی میں Activated charcoal گھول کر پلائیں۔	کام کے دوران خورد و نوش اور سگریٹ نوشی مت کریں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں	پھیٹ میں درد۔ جلن کا احساس۔ تھج۔ غنودگی۔ کھانسی۔ اسہال۔ گلے کی خرابی۔ قے۔ بے ہوشی	نکلتے کی صورت میں:
پیکٹ کرنا اور لیبل لگانا:		بکھرنے کی صورت میں اقدامات:	
خوارک یا جانوروں کی فیڈ کے ساتھ بار برداری نہ کریں		گرے ہوئے مادے کو برتنوں یا ڈبوں میں اکٹھا کریں ڈھکے ہوئے۔ احتیاط کے ساتھ بقیہ مادے کو اکٹھا کریں پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے جائیں۔ (غیر معمولی ذاتی تحفظ، ضرر رساں ذرات کے لئے P2 فلٹر والے ماسک کی ضرورت)۔	
ذخیرہ کرنا:		ہنگامی اقدامات:	
تیزابوں اور خوارک اور فیڈ وغیرہ سے علیحدہ رکھیں		Transport Emergency Card: TEC (R)-[61S1690] NFPA Code: H[3]; F[0]; R[0]	
اہم معلومات پشت پر ملاحظہ فرمائیں			

SODIUM FLUORIDE	سوڈیم فلوراائیڈ	ICSC: 0951
اہم معلومات		
<p>جسم میں داخلے کے راستے: یہ مادہ جسم میں اس کے ذرات کے سانس میں جانے سے اور نکلنے پر جذب ہو سکتا ہے</p> <p>سانس کے راستے داخلے کے اثرات: 20 سنی گریڈ پر تبخیر برائے نام ہے لیکن ہوا میں ذرات کی مقدار خطرناک حد کو چھو سکتی ہے سہرے کرنے یا بکھیرنے پر یہ عمل تیزی سے ہو سکتا ہے</p> <p>مختصر مدت کے لیے جسم میں داخلے کے اثرات: اس مادہ سے آنکھوں میں جلد پر اور سانس کی نالی میں سوزش پیدا ہوتی ہے نکلنے کی صورت میں hypocalcaemia اور hypokalaemia لاحق ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں مرکزی عصبی نظام کی خرابی اور دل کے عارضے لاحق ہو سکتے ہیں۔</p> <p>طویل مدت کے لیے جسم میں داخلے کے اثرات: یہ مادہ مرکزی عصبی نظام پر اثر انداز ہو سکتا ہے</p>	<p>طبعی حالت: سفید قلمیں پاؤڈر</p> <p>طبعی خواص:</p> <p>کیمیائی خطرات: یہ مادہ گرم اشیاء یا شعلے کے ساتھ لگنے پر تحلیل ہو جاتا ہے ہ یہ مادہ زہریلے اور گلا دینے والے بخارات پیدا کرتا ہے۔ یہ تیزابوں کے ساتھ عمل کرتا ہے ازہریلے اور گلا دینے والے بخارات پیدا کرتا ہے</p> <p>ہوا میں مقررہ حدود: روسی معیہ مقداریں</p> <p>(TLV: (as fluoride) 2.5 mg/m³ as TWA; A4; (ACGIH 2003</p> <p>(EU OEL: (as fluoride) 2.5 mg/m³ as TWA; (EU 2002</p>	
طبعی خواص		
	<p>نقطہ جوش: [1700] سنی گریڈ</p> <p>نقطہ پگھلاؤ: 2.8 g/cm³</p> <p>کثافت استانی (بالمقابل پانی = 1): 993°C</p> <p>20 سنی گریڈ پر پانی میں حل پذیری (گرام فی 100 ملی لٹر): 4.0</p>	
ماحولیاتی اعداد و شمار		
نوٹس (Notes)		
<p>اس مادے کے زہریلے اثرات کے لئے مخصوص علاج ضروری ہے مناسب سولتیں اور ہدایات موجود ہونی چاہئیں</p>		
مزید معلومات:		
LEGAL NOTICE	Neither the CEC nor the IPCS nor any person acting on behalf of the CEC or the IPCS is responsible for the use which might be made of this information.	
© IPCS, CEC 1999		
<p>IPCS International Programme on Chemical Safety</p>		<p>Prepared in the context of cooperation between the International Programme on Chemical Safety and the Commission of the European Communities C IPCS, CEC 1999</p>